




**PHILIPS**



## ENGLISH

### Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Important

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

#### Danger

- Keep the adapter dry (Fig. 1).
- If you charge the epilator in the bathroom, do not use an extension cord.

#### Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the appliance before you clean it under the tap.
- Do not insert metal-containing material into the socket on the epilator to avoid short circuiting.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

#### Caution

- Never use water hotter than 40°C to rinse the appliance. It is strongly recommended to rinse the appliance with cold water to prevent bacterial growth.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Make sure the socket is live when you charge the appliance. The electricity supply to sockets in bathrooms may be cut off when the light is turned off.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- To prevent damage and injuries, keep operating appliances (with or without attachment) away from scalp hair, face, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes, etc.

- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use an epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you epilate more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use any exfoliation brush immediately after epilation, as this may intensify possible skin irritation caused by the epilator.
- Do not use bath or shower oils when you epilate under wet conditions, as this may cause serious skin irritation.
- Charge, use and store the epilator at a temperature between 10°C and 30°C.
- If your epilator is equipped with a light for optimal epilation, do not look directly into the light to avoid being dazzled by it.
- Do not use the epilating head of the epilator without one of the epilation caps.
- Fully charge the epilator every 3 to 4 months, even if you do not use the epilator for a longer time.
- If your epilator comes with tweezers, always replace the batteries of the tweezers with batteries of the original type.

#### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure electromagnetic fields.

#### General

- This epilator is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the epilator can therefore only be used without cord (Fig. 2).
- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- Maximum noise level: Lc = 77dB(A).

#### Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

#### Epilating head

If you use the epilating head two or more times a week, we advise you to replace the epilating head after two years or when it is damaged.



## Recycling

- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU (Fig. 3).
- This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste. We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery (Fig. 4).
- Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## Removing the rechargeable battery

*Note: We strongly advise you to have a professional remove the rechargeable battery.*

**Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.**

- 1** Check if there are any screws in the back or front of the appliance. If so, remove them.
- 2** Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- 3** If necessary, cut the wires to separate the printed circuit board and the rechargeable battery from the appliance.

## Removing the disposable battery

To remove the disposable batteries, see the appropriate section in the user manual.

## Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

## Guarantee restrictions

Cutting units are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

## DANSK

### Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Vigtigt

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, før du bruger apparatet og dets tilbehør, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Det medfølgende tilbehør kan variere for de forskellige produkter.

### Fare

- Hold adapteren tør (fig. 1).
- Hvis du oplader epilatoren på badeværelset, må du ikke bruge en forlængerledning.

### Advarsel

- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Tag altid stikket ud af apparatet, inden det skylles under vandhanen.
- Sæt ikke metalholdige materialer i stikkontakten på epilatoren for at undgå kortslutning.
- Kontroller altid apparatet, før du bruger det. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget, da dette kan forårsage personskade. Du skal altid erstatte en beskadiget del med en tilsvarende original type.

### Forsigtig

- Brug aldrig vand, der er varmere end 40°C, når du skyller apparatet. Det anbefales på det kraftigste at skylle apparatet med koldt vand for at forhindre bakterievækst.
- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som vist i brugervejledningen.
- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler som f.eks. benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.
- Sørg for, at stikkontakten er tændt, når du oplader apparatet. Vær opmærksom på, at stikkontakter på badeværelser ofte afbrydes, når lyset slukkes.
- Af hygiejniske grunde bør apparatet kun anvendes af en og samme person.
- For at undgå skader og uheld skal apparatet (med og uden tilbehør) altid holdes i sikker afstand fra hovedhår, ansigt, øjenbryn, øjenvipper, tøj, snore, ledninger, børster og lign., når det er tændt.

- Brug ikke apparatet på irriteret hud eller hud med åreknuder, udsæt, knopper, modernærker (med hår) eller sår uden først at konsultere din læge. Personer med svækket immunforsvar eller personer, der lider af diabetes, hæmofili eller immundefekt, skal altid først konsultere deres læge.
- Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par gange, epilatoren anvendes. Dette er helt normalt og vil hurtigt gå over: Efterhånden som huden vænner sig til epileringen, bliver den mindre irriteret, og hårene, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere. Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet efter tre dage, bør du konsultere din læge.
- Brug ikke eksfolieringsbørsten med det samme efter epilering, da det kan forstærke eventuelle hudirritationer forårsaget af epilatoren.
- Brug ikke badeolier, når du epileringer under våde forhold, da dette kan forårsage alvorlig hudirritation.
- Brug, oplad og opbevar altid epilatoren ved en temperatur mellem 10°C og 30°C.
- Hvis din epilator er udstyret med en lysdiode til optimal epilering, må du ikke se direkte ind i lysdioden, da du kan blive blændet af den.
- Brug ikke epilatorhovedet uden en af epileringsskapperne.
- Oplad epilatoren helt hver 3. - 4. måned, selvom du ikke anvender epilatoren i længere tid.
- Hvis din epilator leveres med pincet, skal du altid udskifte batterierne i pincetten med batterier af den originale type.

### Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

### Generelt

- Denne epilator er vandtæt. Den er egnet til brug i badet eller bruseren og til rengøring under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan epilatoren derfor kun bruges uden ledning (fig. 2).
- Apparatet kan tilsluttes netspændinger mellem 100 og 240 V.
- Adapteren omformer 100 - 240 Volt til en sikker lavspænding under 24 Volt.
- Maks. støjniveau: Lc = 77 dB(A).

### Bestilling af tilbehør

For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

### Epilatorhoved

Hvis du bruger epilatorhovedet to gange om ugen eller hyppigere, anbefaler vi, at du udskifter epilatorhovedet efter to år, eller når det er beskadiget.

## Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 3).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri omfattet af EU-direktivet 2006/66/EF, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler på det kraftigste, at du afleverer produktet på et officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, hvor du kan få en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud (fig. 4).
- Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier: Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og de genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

## Udtagning af det genopladelige batteri

*Bemærk: Vi anbefaler på det kraftigste, at du får en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud.*

**Tag kun det genopladelige batteri ud, når du kasserer apparatet. Sørg for, at batteriet er fuldstændigt afladet, inden det tages ud.**

- 1** Kontroller, om der er skruer bag på apparatet. Hvis der er det, skal de fjernes.
- 2** Fjern bag- og/eller frontpanelet på apparatet med en skruetrækker. Hvis det er nødvendigt, skal du også fjerne yderligere skruer og/eller dele, indtil du kan se printpladen med det genopladelige batteri.
- 3** Hvis det er nødvendigt, skal du skære ledningerne over for at fjerne printpladen og det genopladelige batteri fra apparatet.

## Udtagning af engangsbatteriet

For udtagning af engangsbatterier, se det relevante afsnit i brugervejledningen.

## Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

## Gældende forbehold i reklamationsretten

Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale garanti, da de udsættes for slitage.

## SUOMI

### Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Tärkeää

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja sen lisävarusteita. Säilytä tiedot myöhempiä tarvetta varten. Laitteen mukana toimitetut lisävarusteet vaihtelevat tuotteen mukaan.

#### Vaara

- Suojaa latauslaite kosteudelta (Kuva 1).
- Jos lataat epilattorin akun kylpyhuoneessa, älä käytä jatkojohtoa.

#### Varoitus

- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota laite sähköverkosta aina ennen sen puhdistamista vesihanalla.
- Älä työnnä metallia sisältäviä materiaaleja epilattorin pistokkeen liitäntään oikosulun välttämiseksi.
- Tarkista laite aina ennen käyttöä. Älä käytä viallista laitetta, koska käytöstä saattaa tällöin aiheutua vammoja. Vaihda vahingoittunut osa aina vastaavaan alkuperäiseen.

#### Varoitukset

- Huuhtelee laite korkeintaan 40-asteisella vedellä. Suosittelemme laitteen huuhtelemista kylmällä vedellä bakteerikasvun estämiseksi.
- Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
- Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiniä tai asetonia).
- Varmista, että pistorasian tulee virtaa, kun lataat laitetta. Kylpyhuoneiden pistorasioiden virta saattaa katketa, kun valo sammutetaan.
- Hygieniasystä laitetta suositellaan vain yhden henkilön käyttöön.
- Älä pidä käynnissä olevaa laitetta (lisäosa kiinnitettyä tai irrotettuna) esimerkiksi hiusten, kasvojen, silmäripsien, kulmakarvojen, vaatteiden, lankojen, johtojen tai harjojen lähellä, ettei loukkaa itseäsi tai aiheuta vahinkoa.
- Älä käytä laitetta, jos iho on ärtynyt tai jos ihossa on suonikohjuja, näppylöitä, uomia (joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen kuin olet kysynyt asiaa lääkäriltä.

Myös henkilöiden, joiden vastustuskyky on alentunut, diabeetikoiden ja verenvuototautia tai immuunikatoa sairastavien on ensin kysyttävä neuvoa lääkäriltä.

- Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa muutaman ensimmäisen epilointikerran jälkeen. Tämä on aivan normaali ilmiö ja häviää nopeasti. Kun epilattoria käytetään useammin, iho tottuu ihokarvojen poistoon, ihon ärsytys vähenee ja takaisin kasvavat ihokarvat muuttuvat pehmeämmiksi ja ohuemmiksi. Jos ihon ärsytys ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
- Älä käytä kuorintaharjaa heti epiloinnin jälkeen, koska se voi lisätä epilattorin aiheuttamaa mahdollista ihoärsytystä.
- Älä käytä kylpy- tai suihkuöljyjä, kun epiloit kosteissa tiloissa. Iho voi muuten ärtyä.
- Lataa, käytä ja säilytä laitetta 10–30 °C:n lämpötilassa.
- Jos epilattorissa on epilointia helpottava valo, älä katso suoraan valoon, jotta et sokaistu.
- Älä käytä epilattorin epilointipäätä ilman epilointisuojausta.
- Lataa laitteen akku täyteen kolmen tai neljän kuukauden välein, vaikka et käyttäisi laitetta pitkään aikaan.
- Jos epilattorissa on pinsetit, vaihda niihin aina alkuperäistä tyyppiä vastaavat paristot.

#### Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

#### Yleistä

- Epilattori on vesitiivis. Laite sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa (Kuva 2).
- Laite soveltuu 100–240 voltin verkkojännitteelle.
- Latauslaite muuttaa 100–240 voltin jännitteen turvallisiksi alle 24 voltin jännitteeksi.
- Käyttöäänin enintään: Lc = 77 dB (A).

#### Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kulluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

#### Epilointipää

Jos käytät epilointipäätä kaksi kertaa viikossa tai useammin, suosittelemme epilointipään vaihtamista kahden vuoden välein tai kun ajopää on vaurioitunut.

#### Kierrätys

- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 3).
- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan ja jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen

- keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun (Kuva 4).
- Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

#### Akun poistaminen

*Huomautus: Suosittelemme, että laitteen akun poistaa alan ammattilainen.*

**Poista ladattavat akut ennen laitteen hävittämistä. Varmista, että akut ovat täysin tyhjä, kun poistat ne.**

**1** Tarkista, onko laitteen etu- tai taustapuolella ruuveja. Jos on, irrota ne.

**2** Irrota laitteen etu- ja/tai takapaneeli ruuvimeisselillä. Irrota tarvittaessa myös lisäruuvit ja/tai -osat, kunnes näet piirikortin ja akun.

**3** Irrota tarvittaessa piirikortti ja akku laitteesta katkaisemalla johdot.

#### Paristojen irrottaminen

Katso ohjeet paristojen vaihtamiseen käyttöoppaasta.

#### Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

#### Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne kuluvat käytössä.

## NORSK

### Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Viktigt

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet og tilbehøret, og ta vare på den for senere referanse. Tilbehøret som følger med, kan variere fra produkt til produkt.

#### Fare

- Hold adapteren tørr (fig. 1).
- Hvis du lader epilatoren på badet, skal du ikke bruke en skjøteledning.

#### Advarsel

- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår risikoen. Barn ikke skal leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet under springen.
- Ikke stikk materialer av metall inn i kontakten til epilatorens strømkontakt for å unngå kortslutning. Kontroller alltid apparatet før du bruker det. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Det kan føre til personskade. Bytt alltid ut en ødelagt del med tilsvarende originaldel.

#### Forsiktigt

- Skyll aldri apparatet i vann som er varmere enn 40 °C. Det anbefales å skylle apparatet i kaldt vann for å forhindre bakterievekst.
- Bruk bare dette apparatet til beregnet formål som vist i brukerhåndboken.
- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet. Kontroller at det er strøm i stikkkontakten som skal brukes til å lade apparatet. Det kan hende at strømmen til enkelte stikkontakter på baderommet brytes når lyset slås av.
- Apparatet bør bare brukes av én person av hygieniske årsaker.
- Ikke bruk apparater (med eller uten tilbehør) i nærheten av hodehår, ansikt, øyebryn, øyevipper, klær, tråder, ledninger, børster o.l. for å unngå skader.
- Ikke bruk apparatet på irritert hud eller hud med åreknuter, utslett, kviser, føflekker (med hår) eller sår uten å konsultere lege først. Personer med redusert immunforsvar eller som lider av sukkersyke, blødersykdom eller immundefekt, bør kontakte lege først.
- Huden kan bli litt rød og irritert de første gangene du bruker en epilator. Dette er helt normalt og forsvinner raskt. Etter hvert som du epilering oftere, venner huden seg til epileringen, irritasjonen avtar, og etterveksten blir tynnere og mykere. Hvis irritasjonen ikke blir borte innen tre dager, anbefaler vi at du kontakter lege.
- Ikke bruk peelingbørster like etter epilering, da dette kan forsterke mulig irritasjon på huden som ble forårsaket av epilatoren.
- Ikke bruk bade- eller dusjøljer når du epilering under våte forhold, da dette kan forårsake alvorlig irritasjon på huden.
- Lad opp, bruk og oppbevar epilatoren ved en temperatur på mellom 10 og 30 °C.
- Hvis epilatoren er utstyrt med et lys for optimal epilering, bør du ikke se direkte på lyset for å unngå å bli blendet.

- Ikke bruk epileringshodet på epilatoren uten et av epileringshodene.
- Fullad epilatoren hver 3. til 4. måned, selv om du ikke bruker apparatet for en lengre periode.
- Hvis epilatoren leveres med pinsetter, må du alltid bytte ut batteriene til pinsettene med originalbatterier.

### Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

#### Generelt

- Epilatoren er vannrett. Den kan brukes i badekaret eller dusjen og kan rengjøres under springen. Av sikkerhetshensyn kan derfor epilatoren kun brukes uten ledning (fig. 2).
- Apparatet kan brukes med nettspenninger fra 100 til 240 volt.
- Adapteren omformer 100–240V til en sikker lavspenning på under 24V.
- Maksimalt støynivå: Lc = 77 dB(A).

#### Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).

#### Epileringshode

Hvis du bruker epilatoren to eller flere ganger i uken, anbefaler vi at du bytter ut epileringshodet etter to år eller hvis det blir skadet.

#### Resirkulering

- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU (fig. 3).
- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan avhendes i vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler deg å ta med produktet til et offentlig innsamlingssted eller til et Philips-servicesenter, slik at det oppladbare batteriet kan fjernes av en faglært (fig. 4).
- Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene som vanlig restavfall. Riktig deponering av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

#### Fjerne det oppladbare batteriet

**Merk:** Vi anbefaler på det sterkeste at du får en faglært til å fjerne det oppladbare batteriet.

**Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du kaster apparatet. Kontroller at batteriet er helt utladet når du fjerner det.**

- 1 Kontroller om det er noen skruer foran eller bak på apparatet. Hvis det er det, må du fjerne dem.

- 2 Fjern det bakre og/eller fremre dekselet på apparatet med en skrutrekker. Hvis det er nødvendig, må du også fjerne ekstra skruer og/eller deler til du ser kretskortet med det oppladbare batteriet.

- 3 Kutt om nødvendig ledningene for å skille kretskortet og det oppladbare batteriet fra apparatet.

#### Fjerne engangsbatteriet

Hvis du skal fjerne engangsbatteriene, bør du se tilsvarende avsnitt i brukerhåndboken.

#### Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller lese i garantiheftet.

#### Begrensninger i garantien

Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien ettersom de utsettes for slitasje.

## SVENSKA

#### Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Viktigt

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och dess tillbehör. Spara häftet för framtida bruk. Vilka tillbehör som medföljer kan variera beroende på produkt.

#### Fara

- Blöt inte ned adaptern (Bild 1).
- Om du laddar epilatorn i badrummet bör du inte använda en förlängningsladd.

#### Varning

- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder; personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och de eventuella medförlåda riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
- Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten under rinnande vatten.
- Undvik kortslutning genom att inte föra in metallföremål i epilators kontakt.
- Kontrollera alltid apparaten innan du använder den. Använd inte apparaten om den är skadad eftersom det kan orsaka personskador. Byt alltid ut en skadad del mot en del av originaltyp.

#### Försiktighet

- Använd aldrig vatten som är varmare än 40 °C när du sköljer apparaten. Du bör skölja apparaten med kallt vatten för att förhindra bakterietillväxt.
- Använd apparaten endast till det avsedda ändamålet, som framgår i användarhandboken.
- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller acetone till att rengöra enheten.
- Kontrollera att vägguttaget ger ström när du laddar apparaten. Strömförsörjningen till uttag i badrum kan brytas när lampan släcks.
- Av hygieniska skäl bör apparaten endast användas av en person.
- Undvik skador genom att hålla apparaten (med eller utan tillbehör) borta från hår, ansikte, ögonbryn, ögonfransar, kläder, trådar; sladdar; borstar och liknande när den är igång.
- Använd inte apparaten på hud som är irriterad eller finneg, har åderbräck, utslag eller leverfläckar (med hår) eller på skadad hud utan att först tala med din läkare. Personer med nedsatt immunförsvar och personer med diabetes, blödarsjuka eller immunbrist ska också tala med läkare först.
- Huden kan bli lite röd och irriterad de första gångerna du använder epilatorn. Det är helt normalt och går snabbt över. Allteftersom du använder epilatorn vänjer huden sig, hudirritationen minskar och återväxten blir tunnare och mjukare. Om irritationen inte går över på tre dagar bör du uppsöka läkare.
- Använd inte en exfolieringsborste direkt efter epilering, eftersom det kan förvärra eventuell hudirritation som orsakas av epilatorn.
- Använd inte bad- eller duschholjor när du epilerar under våta förhållanden, eftersom det kan orsaka allvarlig hudirritation.
- Ladda, använd och förvara epilatorn i temperaturer mellan 10 och 30 °C.
- Om epilatorn är utrustad med en lampa för optimal epilering ska du inte titta rakt in i ljuset eftersom du kan bli bländad.
- Använd inte epileringshuvudet utan en av epileringshylsorna.
- Ladda batteriet helt var tredje eller fjärde månad, även om du inte ska använda epilatorn under en längre period.
- Om epilatorn levereras tillsammans med en pincett ska du alltid byta ut batterierna i pincetten mot batterier av originaltyp.

#### Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

#### Allmänt

- Den här epilatorn är vattentät. Den kan användas i badkaret och duschen eller under kranen. Av säkerhetsskäl kan epilatorn därför endast användas utan sladd (Bild 2).
- Apparaten är avsedd för nätspänning på 100–240 volt.
- Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker låg spänning på under 24 V.

- Max. ljudnivå: Lc = 77 dB(A).

#### Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).

#### Epileringshuvud

Om du använder epileringshuvudet oftare än två gånger i veckan rekommenderar vi att du byter ut det efter två år, eller om det blir skadat.

#### Återvinning

- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 3).
- Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG och inte får slängas bland hushållsoporna. Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet (Bild 4).
- Hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara batterier bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

#### Ta ur det laddningsbara batteriet

**Obs!** Vi rekommenderar att du låter en yrkesperson ta ut det laddningsbara batteriet.

**Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga apparaten. Se till att batteriet är helt urladdat när du tar ur det.**

- 1 Kontrollera om det finns några skruvar på apparatens framsida eller baksida. Ta i så fall bort dem.
- 2 Ta bort apparatens bak- och/eller framsida med en skruvmejsel. Om det behövs tar du också bort extra skruvar och/eller delar tills du ser kretskortet med laddningsbart batteri.
- 3 Klipp av trådarna för att separera kretskortet och det laddningsbara batteriet från apparaten.

#### Ta ur engångsbatteriet

Information om hur du tar ur engångsbatterierna finns i tillämpligt avsnitt i användarhandboken.

#### Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller läsa garantibroschyren.

#### Garantibegränsningar

Klippenheterna omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.

بخاطر این خرید به شما تبریک می گویم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه شده از جانب Philips دستگاه خود را درنشانی [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ثبت کنید.

## مهم

این اطلاعات مهم را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید. لوازم جانبی ارائه شده ممکن است برای محصولات مختلف متفاوت باشد.

## خطر

- آداپتور را خشک نگاه دارید (شکل ۱).
- اگر آداپتور را در حمام شارژ می کنید، از سیم رابط برق استفاده نکنید.

## هشدار

- آداپتور دارای یک ترانسفورماتور است. آداپتور را برای تعویض آن با دو شاخه قطع نکنید چون این کار موقعیت خطرناک به وجود می آورد.
- کودکان ۸ ساله و بالاتر و افرادی که توانایی بدنی، حسی و ذهنی آنان پایین است یا تجربه و اطلاعات لازم را در اختیار ندارد در صورتی می توانند از دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت و آموزش لازم برای استفاده از دستگاه به روش ایمن فرا گرفته و خطرهای مربوطه را درک نمایند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام گیرد.
- همیشه دوشاخه دستگاه را قبل از تمیز کردن آن در زیر شیر آب از پریز بیرون بکشید.
- مواد حاوی فلز را در سوکت فیش آداپتور فرو نکنید تا اتصال کوتاه ایجاد نگردد.
- همیشه قبل از استفاده، دستگاه را بررسی کنید. چنانچه دستگاه آسیب دیده باشد از آن استفاده نکنید چون ممکن است باعث بروز جراحت گردد. همیشه قطعه آسیب دیده را با نوع اصلی تعویض کنید.

## احتیاط

- هرگز از آب داغ که حرارت آن بیشتر از ۴۰ درجه سلسیوس است استفاده نکنید. قویا توصیه می شود که دستگاه را برای جلوگیری از رشد باکتری با آب سرد تمیز کنید.
- فقط از دستگاه برای موارد طراحی شده به نحوی که در دفترچه راهنمای کاربر توضیح داده شده است، استفاده کنید.
- هرگز از هوای فشرده، صفحات ساینده، مواد پاک کننده ساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- مطمئن شوید که پریز در زمانی که دستگاه را دوباره شارژ می کنید برق داشته باشد. برق موجود در حمام ممکن است هنگام خاموش کردن چراغ قطع شود.
- بخاطر دلایل بهداشتی، دستگاه فقط باید توسط یک نفر استفاده شود.

- جهت ممانعت از آسیب رساندن و ایجاد جراحت دستگاههای در حال کار را (با ملحقات یا بدون ملحقات) از لباس، رشته های نخ، سیم یا برس دور نگاه دارید.

- از استفاده از سری اپیلاسیون روی پوستهای حساس یا پوستی که دارای رگهای واریسی، دانه، خال، خال گوشتی (یا مو) یا زخم است بدون مشورت با پزشک خودداری کنید. افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف شده مانند اشخاص آبیستن یا افرادی که از مرض قند، هموفیلی یا دارای نقص سیستم ایمنی رنج می برند هم باید اول با پزشک خود مشورت کنند. پوست شما ممکن است هنگام اولین بار استفاده از اپیلاتور اندکی قرمز شده یا بسوزد. این مسئله کاملا طبیعی است و به سرعت رفع خواهد شد. هر چقد بیشتر از اپیلاتور استفاده کنید، پوست شما به اپیلاسیون بیشتر عادت می کند، التهاب پوست کاهش یافته و رشد مجدد موها باریکتر و نرمتر خواهد بود. اگر التهاب بعد در طور سه روز برطرف نشد، توصیه می کنیم که به پزشک مراجعه کنید.

- از برس سایش پوش پس از اپیلاسیون فورا استفاده نکنید چون این کار التهاب احتمالی پوست که توسط اپیلاتور ممکن است ایجاد شود را تشدید می کند.

- از روغنهای حمام یا دوش هنگام اپیلاسیون روی پوست خیس استفاده نکنید چون ممکن است باعث سوزش شدید پوست شود.

- اپیلاتور را در درجه حرارتی بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد شارژ و استفاده کنید.

- اگر اپیلاتور شما مجهز به چراغ جهت اپیلاسیون مطلوب می باشد، مستقیما به نور چراغ نگاه نکنید تا نور چشم شما را نزند.

- از سری اپیلاسیون دستگاه بدون سرپوشهای اپیلاسیون استفاده نکنید.

- دستگاه را هر سه تا ۴ ماه یکبار بطور کامل شارژ کنید حتی اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نکرده باشید.

- اگر اپیلاتور شما مجهز به موچین می باشد، همیشه باتریهای موچین را با باتری نوع اصلی تعویض کنید.

## میدانهای الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با کلیه استانداردها و مقررات مربوط به تشعشعات میدانهای الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

## عمومی

- این اپیلاتور ضد آب می باشد. این دستگاه جهت استفاده در حمام یا زیر دوش و تمیز کردن زیر شیر آب مناسب می باشد. به دلایل ایمنی از اپیلاتور فقط در حالت بدون سیم می توان استفاده کرد (شکل ۲).
- این دستگاه برای استفاده با برق ولتاژ ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت مناسب می باشد.
- آداپتور ارائه شده با دستگاه برق ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت را به برق ایمن با ولتاژی کمتر از ۲۴ ولت تبدیل می کند.
- حداکثر میزان نویز:  $W = LC$  dB(A).

## سفرش دانن لوازم

برای خرید لوازم جانبی یا قطعات یدکی از سایت اینترنتی [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) بازدید کرده یا به فروشگاه Philips مراجعه کنید. همچنین می توانید با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (به برگه ضمانت جهانی خود برای یافتن اطلاعات تماس مراجعه کنید).

## سراپیداسیون

اگر از سر اصلاح دو یا چند بار در هفته استفاده می کنید، توصیه می کنیم تا سر اصلاح را بعد از یک یا دو سال یا هر زمان که آسیب ببیند، تعویض نمایید.

## بازیابی

- این علامت که روی محصول قرار دارد به این معنی مطابقت دستگاه با بخشنامه 2012/19/EU اتحادیه اروپا می باشد (شکل ۳).
- این علامت به این معنی است که دستگاه حاوی باتریهایی است که تحت پوشش بخشنامه 2006/66/EC اتحادیه اروپا می باشد و نمی توان آن را مانند زباله های معمولی دور انداخت. قویا توصیه می کنیم که دستگاه خود را به یک محل رسمی جمع آوری برده یا به مرکز خدمات Philips مراجعه کرده تا باتریهای قابل شارژ را از دستگاه خارج کند (شکل ۴).
- اطلاعات لازم را با سیستم جمع آوری جداگانه محلی که مربوط به محصولات برقی و الکترونیکی و باتریهای قابل شارژ می باشد را کسب کنید. از قوانین محلی پیروی کنید و هرگز محصول و باتریها قابل شارژ را با زباله های عادی خانه دور نیاندازید. دفع محصولات مستعمل و باتریها به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و سلامت انسانها کمک می کند.

## جدا کردن باتریهای قابل شارژ

توجه: قویا توصیه می کنیم از فردی حرفه ای بخواهید که باتری شارژ شونده را جدا کند.

فقط وقتی که دستگاه را دور می اندازید باتری قابل شارژ را خارج کنید. مطمئن شوید که هنگام بیرون آوردن، باتری کاملاً خالی می باشد.

- ۱ بررسی کنید که آیا در جلو یا پشت ریش تراش پیچ وجود دارد. در صورت وجود داشتن آنان را باز کنید.
- ۲ پانل پشت و/یا جلو دستگاه ریش تراش را با استفاده از یک پیچ گوشتی جدا کنید. در صورت لزوم، پیچهای اضافه و/یا قطعات دیگر را باز کرده تا فیبر مدار چاپی با باتری قابل شارژ را ببینید.
- ۳ در صورت لزوم، سیمها را برای جدا کردن فیبر مدار چاپی و باتری قابل شارژ از دستگاه، بچینید.

## خارج کردن باتریهای یک بار مصرف

برای خارج کردن باتریهای یک بار مصرف، به بخش مناسب در دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

## ضمانت و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید لطفا به سایت اینترنتی [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) مراجعه کنید یا برگه جداگانه ضمانت جهانی را مطالعه کنید.

## محدودیتهای ضمانت

تیغه ها تحت پوشش مفاد ضمانت نامه بین المللی نمی باشد چون مستهلک می شود.

هنيئاً لك على شراء هذا المنتج ومرحباً في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## هام

يُرجى قراءة هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز وملحقاته والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. قد تختلف الملحقات المتوفرة باختلاف المنتجات.

## خطر

- حافظي على جفاف المهائج (شكل ١).
- إذا كنت تقومين بشحن جهاز إزالة الشعر في الحمام، فلا تستخدمي سلك مشترك.

## تحذير

- يحتوي المهائج على محول بداخله. لا تقصي سلك المهائج لتبديله بقابس آخر، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للمخاطر.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال في سن الثامنة أو أكثر، ومن قبل من يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، بشرط خضوعهم للإشراف، أو تلقيهم للإرشادات فيما يخص استخدام الجهاز بطريقة آمنة، وفهمهم للمخاطر المرتبطة باستخدامه. وغير مسموح للأطفال العبث بالجهاز. ويجب ألا يقوم بالتنظيف ومهام الصيانة الخاصة بالمستخدم أطفال بدون إشراف.
- احرصي دوماً على فصل الكهرباء عن الجهاز قبل تنظيفه تحت الصنبور.
- لا تدخل أية مواد محتوية على معادن في المقبس الموجود على جهاز إزالة الشعر لتجنب حدوث قصر الدائرة الكهربائية.
- احرصي دائماً على فحص الجهاز قبل استخدامه. لا تستخدمي الجهاز في حال وجود تلف به حتى لا تتعرضين للإصابة. احرصي دوماً على استبدال المهائج التالف بمهائج أصلي.

## تنبيه

- لا تستخدمي مياه أسخن من ٤٠ درجة مئوية في شطف الجهاز. ينصح بشدة بشطف الجهاز بالماء البارد لمنع نمو البكتريا.
- لا تستخدمي هذا الجهاز إلا في الأغراض المخصصة لها كما هو موضح في دليل المستخدم.
- لا تستخدمي الهواء المضغوط أو إسفنجة تنظيف الأطباق أو مواد التنظيف الكاشطة أو أية سوائل قوية مثل المشتقات البترولية أو الأسيتون في تنظيف الجهاز.
- تأكدي من وصول التيار الكهربائي إلى المقبس عند شحن الجهاز. قد ينقطع التيار الكهربائي الأواصل إلى المقابس الموجودة في الحمامات عند إطفاء ضوء المصابيح.
- يجب استخدام الجهاز عن طريق شخص واحد فقط للحفاظ على الصحة العامة.
- لتجنب وقوع الإصابات وحوادث التلف، احرصي على إبعاد الأجهزة قيد التشغيل (مع أو بدون الملحقات) عن فروة رأسك وعن الوجه والحوائب والرموش والملابس والخيط والأسلاك والفريش، وما إلى ذلك.

- لا تستخدمي الجهاز على البشرة المتهبة أو المنطقة المصابة بالدوالي أو الطفح الجلدي أو البثور أو الشامات (التي ينمو بها الشعر) أو الجروح دون استشارة طبيبك أولاً. ويجب أيضاً على الأشخاص الذين لديهم استجابة مناعية منخفضة أو الأشخاص الذين يعانون من البول السكري أو مرض الهيموفيليا (سيولة الدم) أو العوز المناعي استشارة الطبيب أولاً.
- قد تصاب بشرتك بالاحمرار أو التهيج الطفيف أو المرات الأولى من استخدامك لجهاز إزالة الشعر. هذه الظاهرة طبيعية تماماً وسرعان ما تختفي. مع زيادة استخدامك لجهاز إزالة الشعر، تعاد بشرتك على عملية إزالة الشعر، ويقل تهيج البشرة ويصبح نمو الشعر يعد ذلك أقل كثافة وأشد ضعفاً. إذا لم يخف التهيج خلال ثلاثة أيام، ننصحك باستشارة الطبيب. لا تستخدمي فرشاة التقشير بعد إزالة الشعر مباشرة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة التهيج المحتمل للبشرة الذي يسببه جهاز إزالة الشعر.
- لا تستخدمي زيوت الحمام أو الدش عند إزالة الشعر في الظروف الرطبة، لأن ذلك يمكن أن يسبب التهيج الخطيرة للبشرة. اشحني واستخدمي وخزني جهاز إزالة الشعر في درجة حرارة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ درجة مئوية.
- إذا كان جهاز إزالة الشعر مزود بضوء للحصول على نتائج مثالية لإزالة الشعر، فتفادي النظر مباشرة في الضوء لتجنب حدوث الزغللة.
- لا تستخدمي رأس إزالة الشعر الخاص بجهاز إزالة الشعر بدون أحد أغطية الجهاز.
- اشحني جهاز إزالة الشعر بالكامل كل ٣ أو ٤ أشهر، وإن لم تستخدميه لفترة طويلة.
- إذا كان جهاز إزالة الشعر مزود بملاقط، فاحرصي دوماً على استبدال بطاريات الملاقط ببطاريات أصلية.

## المجال الكهرومغناطيسي (EMF)

يتطابق هذا الجهاز من شركة Philips مع جميع المعايير والقوانين السارية فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

## عام

- جهاز إزالة الشعر هذا مقاوم للمياه. وهو ملائمة للاستخدام في الحمام أو تحت الدش وملائمة للتنظيف تحت الصنبور. ومن ثم، يعمل جهاز إزالة الشعر على البطارية فقط، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة (شكل ٢).
- الجهاز ملائم لفولطات التيار الكهربائي المباشر الذي يتراوح بين ١٠٠ و ٢٤٠ فولت.
- يقوم المهائج بتحويل مستوى الفولتية الذي يتراوح ما بين ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت إلى فولتية آمنة ومنخفضة أقل من ٢٤ فولت.
- أقصى مستوى للوضوء: LC = ٧٧ ديسيل (أمبير)

## طلب الملحقات

لشراء الملحقات أو قطع الغيار، يُرجى زيارة الموقع [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) أو توجه إلى موزع شركة Philips. يمكن كذلك الاتصال بمركز رعاية المستهلك الخاص بشركة Philips في بلدك (انظر كتيب الضمان العالمي للحصول على تفاصيل الاتصال).

## رأس إزالة الشعر

إذا كنت تستخدمين رأس إزالة الشعر مرتين أو أكثر في الأسبوع، فإننا ننصح باستبدالها بعد عام أو عامين أو عندما تتلف.

## إعادة التدوير

- يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج يخضع للتوجيهات الأوروبية رقم 2012/19/EU (شكل ٣).
- يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة قابلة لإعادة الشحن وخاضعة لتوجيهات الأوروبية 2006/66/EC مما يتعدى التخلص منها مع المخلفات المنزلية العادية. إننا ننصح بشدة بتسليم المنتج إلى نقطة تجميع رسمية أو مركز صيانة تابع لشركة Philips ليتولى أحد المحترفين هناك نزع البطارية القابلة لإعادة الشحن (شكل ٤).
- يجب الإلمام بنظام التجميع المنفصل المحلي والمعني بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. يجب اتباع القواعد المحلية وتفادي التخلص من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع المخلفات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة القابلة لإعادة الشحن في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

## نزع البطارية القابلة لإعادة الشحن

ملاحظة: إننا ننصح بشدة بجعل أحد المحترفين يقوم بنزع البطارية القابلة لإعادة الشحن.

انزعي البطارية القابلة لإعادة الشحن من الجهاز عند التخلص منه فقط. تأكدي من أن البطارية فارغة تماماً عند إخراجها.

- ١ تحققي من وجود أي مسامير لولبية في الجزء الخلفي أو الأمامي من الجهاز. وإذا كانت موجودة، فقمي بفكها.
- ٢ انزعي اللوحة الخلفية و/أو الأمامية للجهاز باستخدام مفك مسامير لولبية. وعند الضرورة، قمي أيضاً بفك مسامير لولبية و/أو أجزاء إضافية حتى ترى لوحة الدارة المطبوعة والبطارية القابلة لإعادة الشحن.

- ٣ عند الضرورة، اقطعي الأسلاك لفصل لوحة الدارة المطبوعة والبطارية القابلة لإعادة الشحن عن الجهاز.

## نزع البطارية ذات الاستخدام الواحد

لنزع البطاريات ذات الاستخدام الواحد، راجعي القسم المناسب في دليل المستخدم.

## الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يرجى زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو الاطلاع على كتيب الضمان العالمي المنفصل.

## قيود الضمان

لا تشمل شروط الضمان العالمي وحدات القص لأنها عرضة للتآكل.